

کسوف (گھرن) في نماز في ذکر

سورج - يا - چاند نے گھرن لاگے تیوارے گھرن في نماز پڑھے، اھا اذان اقامتہ نتھی، مگر لوگو ما نداء کراوي خبر کري سکاڻي ٿي، تیوارے جہ لوگو مسجد ما حاضر ٿاڻي، یر امام ساٿھ امامتہ سي گھرن في نماز پڑھے انے جرنے یر امکان نہ ھوئي تو یر گھر ما اکیلا بھی پڑھی سکے ٿي.

گھرن في نماز ما دس رکوع انے چار سجدتہ ٿي، پہلا پانچ رکوع دیدا بعد ٻئي سجدتہ انے بیجا پانچ رکوع بعد ٻئي سجدتہ دے، تر بعد تشهد پڑھی سلام والے.

سورج نا گھرن في نماز واسطے امثل نیتہ لے:

أَصْلِي صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِتِلْكَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَاءً
مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ اللَّهُ أَكْبَرُ

چاند نا گھرن في نماز واسطے امثل نیتہ لے:

أَصْلِي صَلَاةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِتِلْكَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَاءً
مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ اللَّهُ أَكْبَرُ

تکبیرتہ الاحرام سي نماز شروع ٿاڻي، تر بعد امام قراءتہ ظاھر ما پڑھے دن ھوئي - يا - رات ھوئي قراءتہ اترتي پڑھے، پہلي رکعتہ ما - الحمد - في سورة انے گھرن نا لمبان مطابق بیسري لمبي سورة پڑھے، تر بعد رکوع دے انے جتني لمبي قراءتہ پڑھی ھوئي تر مطابق رکوع ما لمبان کرے، تر بعد رکوع سي انے اگبر کهي نے پاھو کھڑو ٿاڻي انے ایجمل بیجی رکعتہ پڑھے انے رکوع دیوا قبل منھ نا مقابل بیوے ھاٿھ اوچا کري نے امثل قنوت (مخفي ما) پڑھے :

گھرن فی نماز نوقنوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِیْمُ الْكَرِیْمُ * لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ * سُبْحَانَ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا فِیْهِنَّ وَمَا بَیْنَهُنَّ وَرَبِّ الْاَرْضِیْنَ السَّبْعِ وَمَا
فِیْهِنَّ وَمَا بَیْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ * وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ *
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِكَ وَدِیْنِ نَبِیِّكَ *
وَلَا تُزِغْ قَلْبِیْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِیْ * وَهَبْ لِیْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ *
اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنْ مَمَّنْ خَلَقْتَهُ لِحَبَّتِكَ وَاخْتَرْتَهُ لِدِیْنِكَ وَتُبَّ عَلٰی اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ * وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَهُمْ بِكَ اَهْلُهُ صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِمْ اَجْمَعِیْنَ *

اگر ادعاء یاد نہ ہوئی تو فجر نافرمان قنوت فی دعاء " اللّٰهُمَّ اِنَّا نَحْمَدُكَ ..."
پڑھے، تر بعد رکوع دے، انے رکوع سی کھڑو قھائی انے تیجی رکعہ پڑھے، تر بعد
رکوع دے انے پاچھو کھڑو قھائی انے چوٹھی رکعہ پڑھے، چوٹھی رکعہ نارکوع دیدا قبل
قنوت فی دعاء پڑھے، تر بعد رکوع دے، تر بعد پاچھو کھڑو قھائی انے پانچھی رکعہ پڑھے،
انے پانچھی رکعہ نارکوع دیدا بعد سجود ماجائی، رکوع نالمبان مطابق سجود مالمبان
کرے، بے سجدة دیدا بعد کھڑو قھائی انے ایجمل بیسری وار پانچ رکعہ پڑھے، انے جر مثل کہ
بیجی انے چوٹھی رکعہ ما قنوت فی دعاء پڑھی ایجمل چھٹی، اٹھی انے دسھی رکعہ
ما قنوت فی دعاء پڑھے، یر مثل بیجی وار پانچ رکعہ پڑھا بعد بے سجدة دے انے تشهد

پڑھی نے سلام والے .

گھرن فی نماز ما پہلی رکعتہ فی قراءۃ مطابق ہر رکعتہ ما قراءۃ لمبی پڑھے ،
انے ہر رکوع انے سجدو ما اتنو لمبان کرے ، بیوے وقت پہلا چاٹر رکوع ماسی ما قھو
اونچو کرے تو فقط - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - کہے انے پانچواں رکوع ماسی - سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - کہی ما قھو اونچو کرے انے - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - کہی سجدۃ ما جانی ، مگر
ہر ایک رکوع ماسی ما قھو اونچو کرے وقت کانو نا مقابل بیوے ما قھو نے اونچا کرے .
بُ سجدۃ نا درمیان بیچی نماز و فی مثل قھو ٹری وار بیٹھے .

گھرن فی نماز پوری تھی جانی پچھی دیکھے ، جو بھی گھرن باقی ہوئی تو
گھرن دور قھائی وہاں لگ مصلیٰ پر بیٹھی نے قرآن مجید فی تلاوۃ کرے ،
دعاؤ پڑھے ، اگر نہ پڑھی سکتا ہوئی تو تسبیح انے دعاء کرے .
اگر گھرن فی نماز پڑھوؤ ممکن نہ ہوئی تو قرآن مجید پڑھے ، دعاؤ پڑھے ،
تسبیح کرے ، کھاوا پیوا سی پرہیز کرے .



نوٹ : افضل ایم ہے کہ : ہر رکعتہ ما ایک لمبی سورۃ پوری پڑھے . کوئی چاہے تو ایک لمبی سورۃ نے حصرو ما ایک
کرتا زیادۃ رکعتہ ما پڑھی سکے ہے ، تیوارے ایم خیال رکھے کہ ہر سورۃ پانچویں رکعتہ ما تمام تھی جانی انے سورۃ
شروع کیدا بعد اھنا پچھی فی رکعتہ ما جیوارے ہر سورۃ ماسی اگل پڑھوؤ شروع کرے تر پہلے الحمد فی سورۃ
نہ پڑھے انے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہ پڑھے ، بسم اللہ ... فقط ہر سورۃ نا شروع ما پڑھے .